

5

Z)

To preserve rare manuscripts, letters, pictures, stone images, artist works and archaeological and historical exhibits, and establish archives/museums. (Page 7)

یعنی - نادر و نایاب مسودہ، خطوط، تصاویر، مجسمے (پتھر کے مورث) فنی شاپکار اور آثار قدیمہ، تاریخی عجائب کو محفوظ کرنا نیز عجائب گھروں کے تعمیر۔

6

Surat spiritual Declaration

Guide the people to develop an attitude to appreciate different viewpoints (Page 41)

یعنی سورت روحانی اعلامیہ

"اور لوگوں کے رہنمائی کر کہ وہ دوسروں کے نظریات کا احترام کریں (ترجمہ شائع کردہ روحانی نادر و نایاب ص 40)

7

universal truths embodied in each religion are very similar and they will help to form the bridge thus reinforcing basic unity (Page 42)

یعنی - آفاقی سچائیاں ہر مذہب میں یکساں ہیں اور وہ بنیادی اتحاد کو مضبوط بنانے میں ایک پل کا کام کریں گے۔

8

Religions are like ~~exquisite~~ exquisite gardens, places full of surpassing beauty and tranquillity, like sacred groves filled with beautiful birds and their melodious songs. Religions are beautiful gardens. (Page 42)

یعنی - "مذہب سچے معنوں میں نہایت عمدہ باغ، بے مثالی خوبصورتی و نشانی کی جگہ، مقدس پہاڑوں کے جھنڈ جو کہ خوبصورت پرندوں سے بھرے ہوتے ہیں اور ان کے سنہلے گیت کی لہر ہے۔" (ترجمہ شائع کردہ روحانی نادر و نایاب ص 42)

9

Project 1: Celebration of inter-religious festivals (P. 43)

یعنی کثیر المذہب کے تہواروں کا انعقاد

10

Project 2: Multi-religious projects (P. 43)

یعنی کثیر المذہب منصوبے

11

Project 3: Education in and with the ambience of UNITY OF RELIGIONS. (Page 43)

یعنی - اتحاد مذہب (تائفریم) کے احاطہ کے ساتھ اور ایک انداز، تبلیغ دین

12

Project 4: Inter-faith dialogue. (Page 43)

یعنی بین المذہبی مذاکرات